



COVID-19 وبا کے دوران آپ کے حقوق

وبا کے دوران آپ کی ذمہ داریاں

آپ کی ذمہ داری ہے کہ COVID-19 وبا کے دوران قوانین اور واجب پابندیوں کی تعمیل کریں۔ صحت کے لیے تازہ ترین ہدایات نیو ساؤتھ ویلز ہیلتھ کی ویب سائٹ پر مل سکتی ہیں۔

آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی نسل کی وجہ سے اس کے ساتھ امتیازی سلوک یا غیرمنصفانہ سلوک نہ کریں اور نہ اس وجہ سے کہ آپ سمجھتے ہیں اسے COVID-19 ہے اور نہ ہی کسی اور ایسی خصوصیت کی وجہ سے بھی جیسے نیو ساؤتھ ویلز کے قوانین میں تحفظ دیا گیا ہے۔

بعض معاملات میں امتیازی سلوک قانون کے خلاف ہے جن میں یہ شامل ہیں

- کام
- تعلیم
- اشیاء اور خدمات کی فراہمی
- رہائش
- رجسٹرڈ کلب۔

وبا کے دوران آپ کے حقوق

COVID-19 وبا اور پابندیوں کے دوران بھی آپ کو امتیازی سلوک سے پاک ماحول میں زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔

آپ کا حق ہے کہ آپ کی نسل، حمل، بیماری یا کسی کی نگہداشت کے لیے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ نیو ساؤتھ ویلز کے قوانین کے تحت دوسری کئی خصوصیات کو بھی تحفظ حاصل ہے یعنی ان خصوصیات کی بنا پر امتیازی سلوک ممنوع ہے۔

غیر قانونی امتیازی سلوک کی مثالیں

آپ کو COVID-19 ہونے کی وجہ سے یا آپ کے خاندان میں کسی کو COVID-19 ہونے کی وجہ سے آپ کی ملازمت ختم کر دی جائے۔

آپ کا آجر COVID-19 کی وجہ سے اپنے کاروبار کو چھوٹے پیمانے پر لا رہا ہے اور آپ کی کار میں تبدیلیاں ہونے کے ساتھ آپ کے ساتھی کارکنوں کی نسبت آپ سے مختلف برتاؤ کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ حاملہ ہیں یا کسی کی نگہداشت کے لیے ذمہ دار ہیں۔

آپ کا کرایہ نامہ اس لیے ختم کر دیا گیا ہے کہ آپ ڈاکٹر، نرس یا صحت کے کارکن ہیں اور آپ کے مالک مکان کو فکر ہے کہ آپ کو COVID-19 انفیکشن ہو جائے گا اور آپ مکان کو وائرس سے آلودہ کر دیں گے۔

آپ کی نسل کی وجہ سے آپ کے ساتھ کھلے عام بدزبانی کی جائے۔ نسل میں آپ کی رنگت، قوم، نسب، نسلی پس منظر اور/یا نسلی و مذہبی پس منظر بھی شامل ہے۔

آپ کی نسل کی وجہ سے آپ کو کسی دکان میں سروس دینے سے انکار کر دیا جائے۔



ہم سوالات اور شکایات کا
حل کرنے، امتیازی سلوک
اور اس کے اثرات کے بارے
میں شعور پھیلانے اور تبدیلی
لانے کے لیے قدم اٹھانے کے
ذریعے نیو ساؤتھ ویلز میں
امتیازی سلوک کے خاتمے کی
جدوجہد کرتے ہیں۔

ہم امتیازی سلوک کے
خلاف ایکٹ (Anti-Discrimination Act)
1977 کا انتظام کرتے ہیں۔



Anti-Discrimination
New South Wales

سوالات

فون (02) 9268 5544
ٹول فری نمبر 1800 670 812
adbcontact@justice.nsw.gov.au

شکایات

complaintsadb@justice.nsw.gov.au

تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس
13 14 50

ویب سائٹ

antidiscrimination.justice.nsw.gov.au

Parramatta

Level 7, 10 Valentine Avenue
Parramatta NSW 2150
PO Box W213, Parramatta
Westfield NSW 2150
فون (02) 9268 5555
فیکس (02) 9268 5500

